


اپنے دعوے میں محکمہ لیبر و صنعت کسی فیصلے پر اعتراض کیسے کیا جائے



اعتراض کیا ہے؟

اعتراض وہ مراسلہ ہے جس میں یہ کہا جائے کہ آپ ملازمین کے معاوضے کے دعوے سے متعلق فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ آپ کا اعتراض فیصلے کی وصولی سے 60 دن کے اندر لازماً موصول ہو جانا چاہیے۔

آپ کے اعتراض میں شامل ہونے چاہئیں:

- آپ کا نام اور دعویٰ نمبر۔
- محکمے کے فیصلے کی تاریخ۔
- اختلاف کا سبب اور مہیا کار کی کوئی رپورٹ یا کوئی دیگر معلومات جو آپ کے خیال سے یہ ظاہر کرتی ہو کہ فیصلہ غلط ہے۔

مجھے اپنا اعتراض یا اپیل کہاں ارسال کرنا چاہیے؟

- Claim and Account Center (دعویٰ اور اکاؤنٹ سینٹر) کو استعمال کرتے ہوئے <https://secure.Lni.wa.gov> پر اپنا اعتراض آن لائن بھیجیں (اس آپشن کو استعمال کرنے کیلئے آپ کو پاس ورڈ کے ساتھ ایک اکاؤنٹ تشکیل دینے کی ضرورت پڑے گی)۔ یا
- اپنا تحریری اعتراض مندرجہ ذیل پتے پر ارسال کریں
Department of Labor & Industries, P.O. Box 44291,
Olympia WA 98504-4291
- Board of Industrial Insurance Appeals (BIIA),
Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA
98504-2401 کو تحریری اپیل ارسال کریں یا www.BIIA.wa.gov
- پر موجود الیکٹرانک فارم پر اپنی اپیل جمع کرائیں۔ (Labor & Industries) [لیبر و صنعت] آپ کی شکایت کا ازالہ نہ کر سکے تاوقتیکہ بورڈ آف انڈسٹریل انشورنس اپیلز [Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA] اسے ایسا کرنے کا حکم نہ دے۔

جب محکمے کو میرا اعتراض موصول ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟

آپ کا کلیم مینیجر آپ کے دعوے کی فائل کا جائزہ لے گا اور مندرجہ ذیل میں سے کوئی اقدام کرے گا:

1. اصل فیصلے کو بدلے گا۔ آپ کو ایک نیا مراسلہ یا حکم نامہ یا دونوں، نئے فیصلے کے ساتھ موصول ہوں گے۔
2. یہ فیصلہ کرے گا کہ اصل فیصلہ درست ہے۔ آپ کو ایک حکم نامہ ملے گا جس میں بتایا جائے گا کہ فیصلہ درست تھا۔ اگر آپ ابھی بھی غیر متفق نہ ہو تو آپ تحریری طور پر بورڈ آف انڈسٹریل انشورنس اپیلز (BIIA) سے اپیل کر سکتے ہیں۔ اپیل کی مقررہ مدت اور مراسلت کا پتہ حکم نامے پر دیے گئے ہوں گے۔

PUBLICATION F242-363-317 (Urdu) [04-2019]

3. یہ فیصلہ کرے گا کہ مزید معلومات درکار ہے۔ آپ کو فیصلے کو روکے جانے، مزید معلومات کے لیے ایک مراسلہ یا دونوں کے لیے ایک حکم نامہ موصول ہوگا۔ کلیم مینیجر آپ سے، آپ کے ڈاکٹر سے یا آپ کے آجر سے مزید معلومات طلب کر سکتا ہے۔

اس بنیاد پر کہ کیا مزید معلومات درکار ہیں آپ کے اعتراض پر فیصلے میں 30 دن سے 60 یا زیادہ دن کا وقت لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ارسال کرنے کے 30 دن کے اندر جواب نہ ملے تو براہ کرم اپنے کلیم مینیجر سے رابطہ کریں۔

اگر میں اعتراض یا اپیل نہ کروں یا 60 دن کے بعد ایسا کروں تو کیا ہوگا؟

اگر آپ 60 دن کی مدت کے دوران اعتراض یا اپیل نہیں کرتے تو محکمے کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بعد کی تاریخ میں اعتراض یا اپیل نہیں کر سکتے۔

اگر مجھے اپنے دعوے کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی شکایت کرنی ہو تو میں کس سے رابطہ کروں؟

- آپ کے دعوے سے متعلق مخصوص سوالات کے لیے اس کلیم مینیجر سے جو آپ کے معاملے پر کارروائی کر رہا ہے۔ فون کرنے میں مدد کے لیے آپ کے کلیم مینیجر کی ترجمانوں تک رسائی ہوتی ہے۔
- دعوے سے متعلق عمومی معلومات کے لیے محکمے کا ٹال فری نمبر 1-800-547-8367 ہے۔ یہ نمبر ہسپانوی زبان میں معلومات سننے کا متبادل فراہم کرتا ہے۔

مزید مدد کے لیے آپ مندرجہ ذیل مفت خدمات سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں:

- 1-800-255-9752 پر پروجیکٹ ہیلپ (پروجیکٹ ہیلپ)۔ ترجمان کی خدمات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
- 1-888-201-1014 پر کوآرڈینیٹڈ لیگل ایجوکیشن، ایڈوائس اینڈ ریفرل (Coordinated Legal Education, Advice and Referral, CLEAR) سے۔ یہ خدمت کم آمدنی والے ملازمین کو فون پر مشورہ اور سفارشات فراہم کرتی ہے، کام کے دنوں میں عموماً صبح 9:15 بجے اور 12:15 دوپہر کے درمیان۔ معلومات ہسپانوی زبان میں دستیاب ہے۔
- پروجیکٹ ہیلپ CLEAR سے رابطہ کرنا محکمے کے فیصلے پر اعتراض یا اپیل میں شامل نہیں ہے۔ محکمے کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنے کے لیے اس حقائق نامے میں بیان کردہ طریقوں پر عمل کریں۔



Washington State Department of
Labor & Industries
Workers' Compensation Services

معموریوں سے متاثر افراد کے لیے دیگر فارمیٹس اور غیر ملکی زبان میں معاونت کی درخواست کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ 1-800-547-8367 پر فون کریں۔
TDD صارفین 360-902-5797 پر فون کریں۔ ایل اور آئی (لیبر و صنعت) یکساں مواقع والا آجر ہے۔